

خصوصی اسلامی بھائی، مجلس اصلاح برائے قیدیان وغیرہ کا تعارف کروائیں، شیخ طریقت، امیر اہلسنت، بنی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کی دینی خدمات سے آگاہ کریں اور موقع پاتے ہی امیر اہلسنت دامت برکاتہم العالیہ کا مرید یا طالب بنائیں۔

﴿دُورانِ گفتگو ان کی ہربات پر ہاں میں ہاں ملائیں نہ سر ہلا کرتا نید کریں، اختلافی مسائل، فضول گفتگو اور سیاسی معاملات پر گفتگو سے مکمل اچتناب کریں۔ انفرادی کوشش کرتے ہوئے خوفِ خدا و عشقِ مصطفیٰ، اخلاص و اخلاقِ حنفہ سے متعلق گفتگو کریں نیز انہیاء و صحابہ و اولیاء (عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَعَلَيْهِمُ الرِّضوانُ) کی اسلام کی خاطر قربانیاں اور اصلاح امت کے لئے دعوت اسلامی اور بنی دعوت اسلامی دامت برکاتہم العالیہ کا کردار اپنا صفا جیسے عنوانات پر ہی گفتگو کریں۔ کرکٹ، ہاکی، فٹ بال وغیرہ (ان ڈور اور آٹ ڈور گیمز) سے تعلق رکھنے والے کھلاڑیوں / ملازمین / سرکاری افراد (Officials) سے اپنا ذاتی کام ہرگز نہ کہا جائے۔ ملاقات مختصر (5) سے 12 منٹ) ہو، اگر وہ دلچسپی ظاہر کریں تو مزید وقت بڑھادیں اور کرکٹ، ہاکی، فٹ بال وغیرہ (ان ڈور اور آٹ ڈور گیمز) سے تعلق رکھنے والے نہایاں کھلاڑیوں / ملازمین / سرکاری افراد (Officials) سے تحریری یا ویڈیو یا تراجم حاصل کر کے مع تفصیلات مجلس مدنی چینیں کو ارسال / میں فرمادیں نیزان کے سوچل میڈیا اکاؤنٹس (Social Media Accounts) پر دعوت اسلامی، بنی دعوت اسلامی اور مبلغین دعوت اسلامی کے سوچل پیجز (Social Pages) کو بھی لا ٹیک (Like) اور فالو (Follow) کروائیں۔

﴿حدیثِ پاک میں ہے "تَهَادُوا تَحَبُّوا" یعنی ایک دوسرے کو تحفہ دو، آپس میں محبت بڑھے گی۔ (مؤطراً امام مالک، ج ۲، ص ۷۰، رقم ۱۷۳)﴾ پر عمل کی نیت سے افتتاحی ملاقات پر کھلاڑیوں وغیرہ کو ذاتی طور پر حسب استنطاعت اور محیر اسلامی بھائیوں سے ترکیب بنا کر مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتب و رسائل اور میموری کارڈ وغیرہ بھی تحفہ پیش کریں۔ جو رسالہ / کتاب / میموری کارڈ پیش کریں اُسے اپنے پاس ڈائری میں لکھ لیں تاکہ آئندہ ملاقاتات میں کوئی اور کتاب / رسالہ / میموری کارڈ پیش کی جاسکے۔

﴿مضبوط اور مستقل رابطہ، مجلس کے مدنی کام کی جان ہے، جن سے ملاقات ہواؤں کا نام اور فون نمبر وغیرہ حاصل کر کے فہرست مرتب کریں اور بالمشافہ، Email، SMS، SMS، خصوصی اپنے مسلسل رابطہ میں رہیں، کرکٹ، ہاکی، فٹ بال وغیرہ (ان ڈور اور آٹ ڈور گیمز) سے تعلق رکھنے والے کھلاڑیوں / ملازمین / سرکاری افراد (Officials) کا ای میل ایڈریس مجلس آئی ٹی کو اور شعبہ جات مثلاً مدنی چینیں، مجلس شعبہ تعلیم، مجلس آئی ٹی، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ (www.dawateislami.net)، مجلس

الحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم طبسم الله الرحمن الرحيم ط

## ”بگڑا جاتا ہے کھیل میرا آقا سنوار آقا“

کے 32 حروف کی نسبت سے مجلس رابطہ برائے اسپورٹس کے 32 مدنی پھول

**فرمان امیر اہلسنت** دامت برکاتہم العالیہ:

﴿دعوت اسلامی کا 99.99% مدنی کام انفرادی کوشش سے ممکن ہے۔

﴿۱﴾ فرمانِ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے: زینۃ المؤمن خییر من عملہ۔ یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ (المعجم الكبير للطبراني، الحدیث: ۵۹۴۲، ج ۶، ص ۱۸۵) اس لیے مجلس رابطہ برائے اسپورٹس کا ہر ذمہ دار امیر اہلسنت دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ ”72 مدنی انعامات“ میں سے ”مدنی انعام نمبر ۱“ پر عمل کرتے ہوئے یہ نیت کرتا ہے کہ: ”میں اللہ عز وجل کی رضا اور اس کے پیارے جیبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے دعوت اسلامی کے شعبہ مجلس رابطہ برائے اسپورٹس کا مدنی مرکز کے طریق کارکے مطابق کروں گا، ان شاء اللہ عز وجل۔“

﴿۲﴾ مجلس رابطہ برائے اسپورٹس کا بنیادی کام کھیل کے مختلف شعبہ جات مثلاً کرکٹ، ہاکی، فٹ بال وغیرہ (ان ڈور اور آٹ ڈور گیمز) سے تعلق رکھنے والے کھلاڑیوں / ملازمین / سرکاری افراد (Officials) سپورٹس سے تعلق رکھنے والی تنظیموں اور ان کے اہل خانہ میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی پیغام کو عام کرنا اور انہیں دعوت اسلامی سے وابستہ کرتے ہوئے اس مدنی مقصد ”محبہ اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، ان شاء اللہ عز وجل“ کے حصول میں مصروف عمل کرنا ہے۔

﴿۳﴾ مجلس کے ذمہ داران، کرکٹ، ہاکی، فٹ بال وغیرہ (ان ڈور اور آٹ ڈور گیمز) سے تعلق رکھنے والے کھلاڑیوں / ملازمین / سرکاری افراد (Officials) سے پیشگی وقت لیکر ملاقات کریں ﴿۴﴾ بہتر یہ ہے کہ ملاقاتات کے لئے 3/2 اسلامی بھائی مل کر جائیں، ملاقاتات کی ابتداء میں تعارف یعنی تنظیمی ذمہ داری (مجلس رابطہ برائے اسپورٹس دعوت اسلامی کے حوالے سے) کروائیں ضرورتاً اپنی تعلیمی قابلیت (Educational Qualification) بیان کرنا مفید ہے ﴿۵﴾ دوسران ملاقاتات دعوت اسلامی کے مدنی کاموں اور شعبہ جات مثلاً مدنی چینیں، مجلس شعبہ تعلیم، مجلس آئی ٹی، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ (www.dawateislami.net)، مجلس

(8) کسی بھی کھلاڑی وغیرہ کے گھر میں مدنی ماحول بنانے کی ایک ترکیب یہ بھی ہے کہ ان کے گھر کی اسلامی بہنوں کو اسلامی بہنوں کے اجتماع میں شرکت کروائیں، اس کے لئے "مجلس معاونت برائے اسلامی بہنوں" کے ذمہ دار کے ذریعے چند ذمہ دار اسلامی بہنوں کو شخصیت کے گھر بھیج کر ان کے گھر کی اسلامی بہنوں سے ملاقات کروائیں۔

(9) مختلف کھلیوں کے ریٹائرڈ کھلاڑیوں اور ان کے عزیز واقرباء سے ملاقات و انفرادی کوشش کر کے انہیں بھی مدنی ماحول سے وابستہ کرنے کی کوشش کریں۔

(10) جن کھلاڑیوں سے رابطہ ہے شہرط پران کی فہرست بنا کیں اور پھر ان کو زون (ذمہ داران میں تقسیم کر دیں۔

(11) ممکن ہو تو ہر ہفتہ ورنہ 15 دن بعد مدنی حلقة کی ترکیب بنا کیں۔ (کھلاڑی کے گھر پر یا جہاں آپ کی مجلس طے کرے)

(12) ڈومینٹک / امنیشنل میچر میں جو ٹیمیں آپ کے زون میں آتی ہیں، ان سے ہوٹل میں جا کر ملاقات کی ترکیب بنا کیں اور ممکن ہو تو مدنی حلقة بھی لگا کیں۔

### (13) ذمہ داران کی تقدیری کی ترکیب:

ذمہ دار	سطح	#	ذمہ دار	سطح	#
نگرانِ مجلس	ملک	4	ذیلی مجلس (اسٹیڈیم / اکیڈیمیز / کلبز)	ذیلی حلقة	1
رُکنِ شورای	مرکزی مجلس شورای	5	زون ذمہ دار	شہر	2
			یہی شہر ذمہ دار بھی ہیں ان کے تحت	(محصوص 12 شہر)	
			ذیلی ذمہ داران ہوں گے		
			ریجن	ریجن ذمہ دار	3

ذیلی سطح پر 3 رکنی مجلس ہوگی جو کہ (اسٹیڈیم / اکیڈیمیز / کلبز) وغیرہ میں مدنی کام کرے گی۔ مخصوص شہروں میں شہری پر ذمہ دار مقرر ہو گا، یہ ذمہ دار متعلقہ زون کا زون کا زون (ذمہ دار بھی ہو گا) صرف عطا ری زون (باب المدینہ کراچی) اور ہجوری زون (مرکز لاہور) میں کا بینہ سطح پر کا بینہ ذمہ دار بھی ہو گا۔ ریجن ذمہ داران پاکستان سطح کی مجلس کے رکن ہیں جو زون ملک کے ذمہ داران، نگرانِ مجلس یہروں ملک (رکنِ شورای) کی اجازت سے اس شعبے میں کسی بھی سطح پر ذمہ دار مقرر کریں۔ یاد رہے کہ کسی بھی سطح کے ارکین نگران کی تقدیری کے لئے متعلقہ سطح کے نگران کی اجازت ضروری ہے۔ (ایم پیلسٹ دامت رکا نعم العالیہ ہر مجلس

دین تاکہ وہ مدنی پھول روانہ کرتی رہے۔

(4) عند الضرورت خاص موقع پر ہی نہیں بلکہ کھلاڑیوں سے مناسب وقفع کے ساتھ رابطے میں رہیں اور باخصوص دعوت وغیرہ متعلقہ نگران اور نگرانِ مجلس کو بھی پیش کریں تاکہ مدنی مرکز کی طرف سے ضرورتاً اُن سے فوری رابطہ کیا جاسکے۔

یاد رہے! کسی بھی کرکٹ، ہاکی، فٹ بال وغیرہ (ان ڈور اور آؤٹ ڈور گیمز) سے تعلق رکھنے والے کھلاڑیوں / ملازمین / سرکاری افراد (Officials) کی دعوت خاص نہ خواہ دہی کسی سے ترکیب بنا کر کریں، یہی حکم اسلامی کتب و رسائل اور میموری کارڈ (Memorandum of Understanding) کے علاوہ تھا نافذ کا ہے۔

\* کرکٹ، ہاکی، فٹ بال وغیرہ (ان ڈور اور آؤٹ ڈور گیمز) سے تعلق رکھنے والے کھلاڑیوں / ملازمین / سرکاری افراد (Officials) کے ہاں بیماری، پریشانی، فونگی کے موقع پر غنواری (عیادت و تحریث) کی ترکیب کریں مثلاً مکتوبات و تعویذات عطا ری، فونگی پر غسل میت، جنازہ و مدد فین اور سوئم، چہلم و بر سی پر اجتماع ذکر و نعمت اور ایصالِ ثواب کی ترکیب وغیرہ۔

\* ربع الاڈل، گیارہویں شریف، رمضان المبارک اور سفرِ حج و سفرِ مدینہ وغیرہ موقع کی مناسبت سے کھلاڑیوں کے گھروں پر اجتماع ذکر و نعمت کی ترکیب کر کے بیکی کی دعوت کی خوب خوب دھو میں چا کیں۔ (اجماع ذکر و نعمت کا جدول: تلاوت: 5 منٹ، نعمت: 5 منٹ، بیان: 19 تا 26 منٹ، دعا: 5 منٹ، سلام: 3 منٹ، ملاقات و انفرادی کوشش: 41 منٹ) میزبان کا پہلے سے ہی ذہن بنا کر تقسیم رسائل (مکتبۃ المسیدۃ کی جاری کردہ کتب و رسائل اور میموری کارڈ) کی ترکیب کریں۔

(5) کرکٹ، ہاکی، فٹ بال وغیرہ (ان ڈور اور آؤٹ ڈور گیمز) سے تعلق رکھنے والے کھلاڑیوں / ملازمین / سرکاری افراد (Officials) کے گھروں میں مدنی چینیں کی ترکیب بنا کیں۔ انہیں مدنی چینیں کے سلسلوں کا تعارف کروائیں اور دیکھتے رہنے کا ذہن بنا کیں۔

(6) جہاں جہاں ممکن ہو کھلاڑیوں کو ترغیب دلائے کرمی اجتماعات کا رسالہ پیش کریں اور پھر مہینے کے اختتام پر وصولی کی ترکیب بھی کریں۔

(7) جو کھلاڑی وغیرہ مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں، ان کے اہل و عیال کو بھی مدنی ماحول فراہم کریں (مثلاً ان کے گھر مدنی چینیں چلوائیں، مدنی متون کو مرستہ المدینہ / جامعۃ المدینہ میں داخل کروائیں یا کسی ایجمنے مدرس سے گھر میں قرآن پاک پڑھوائیں (صرف مدنی متون کو)۔

میں مدنی اسلامی بھائی کے ہونے پوچنے فرماتے ہیں)

ایک ماہ بذریعہ انتہنیٹ۔

﴿13﴾ معمول (Routine) سے ہٹ کر ہونے والے شعبہ جات کے مدنی مشوروں یا ذمہ داران کے سُتوں بھرے اجتماعات کے لیے اولاً "اجازت نامہ" کمل پُر کر کے طے شدہ طریق کار کے مطابق متعلقہ ذمہ دار کو جمع کروانا ہوگا۔ (مزید وضاحت کے لیے "اجازت نامہ" برائے مدنی مشورہ یا ذمہ داران کا سُتوں بھرالا جنم کر لجئے، یا اجازت نامہ پاکستان انتظامی کا بینہ دفتر سے میں ہو چکا ہے، بوقت ضرورت دوبارہ حاصل کیا جاسکتا ہے)

﴿14﴾ کارکردگی جمع کروانے کی تاریخیں: ۵ زون: ۳ شہر: ۷ ریجن: 6 ملک: 7

﴿15﴾ مدنی مشوروں کی کثرت سے بچنے کے لیے مقرر کردہ سطح کے علاوہ کسی اور سطح کا مدنی مشورہ لینے کے لیے متعلقہ نگران سے اجازت ضروری ہے۔ جب بڑی سطح کے ذمہ دار دیگر پچی سطح کے ذمہ داران کا مدنی مشورہ کر لیں تو پھر اس ماہ ان کا ماہانہ مدنی مشورہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح جس ماہ نگرانِ زون شعبے کے ذمہ داران کا مدنی مشورہ فرمائیں گے، اس ماہ بھی شعبہ ذمہ داران ماہانہ مدنی مشورہ نہیں کریں گے۔ (شعبے کے مدنی کام کو مضبوط اور منظم کرنے کے لیے وقت فرماپنے نگران سے شعبے کے اسلامی بجا ہوں کامنہ مدنی مشورہ کروانا مفید ہے)

﴿16﴾ پاکستان / یروں ملک سطح کے ذمہ دار ہر عیسوی ماہ کی 7 تاریخ تک کارکردگی، پاکستان انتظامی کا بینہ دفتر اور متعلقہ رکن شوریٰ کو میں کر دیں۔ (یاد رہے! کارکردگی مدنی مشورے سے مشروط نہیں، اگر کسی وجہ سے مدنی مشورہ نہ ہو سکے تو بھی مقررہ تاریخ پر اپنے نگران کو کارکردگی پیش کر دیں)

﴿17﴾ ہر ذمہ دار ہر ماہ کا پیشگی جدول عیسوی ماہ کی 19 تا 22 تاریخ تک اپنے نگران سے منظور کروائے، پھر اس کے مطابق پیشگی اطلاع کے ساتھ اپنے جدول پر عمل کرے اور مہینہ کمل ہونے کے بعد 1 تا 3 تاریخ تک کارکردگی جدول اپنے نگران کو پیش کرے۔

﴿18﴾ ذی میں (اسٹیڈیم / اکیڈمیز / گرواؤنڈز) کے ذمہ دار اور اکین کا ہفتہوار جدول: ہفتے میں 4 دن کھلاڑیوں اور عملے سے ملاقات، 1 دن تحریری کام، 1 دن ہفتہوار اجتماع میں (کھلاڑیوں کے ساتھ شرکت) اور 1 دن مدنی نما کرے میں شرکت (کھلاڑیوں کے ساتھ)۔

﴿19﴾ زون سطح کی مجلس کے ذمہ داران کے جدول میں (اسٹیڈیم / اکیڈمیز / گرواؤنڈز اور کھلاڑیوں کے گھروں میں) ملاقات

﴿20﴾ جو اسٹیڈیم / اکیڈمیز / گرواؤنڈز تنظیمی طور پر جس کا بینہ میں آتے ہیں، وہاں کے زون ذمہ دار متعلقہ نگران کا بینہ سے مشورہ کر کے ذیلی مجلس کا قیام کریں۔

﴿21﴾ **مَذْنَى قَافِلَه، مَذْنَى انْعَامَات، مُخْتَلَفَ مَذْنَى كورسز کے مَاهَنَه اَهَدَاف:**  
محلس کے ہر سطح کے ذمہ داران اپنے نگران کے مشورے سے مدنی قافلوں، مدنی انعامات، اصلاح اعمال کورس، 12 مدنی کام کورس، فیضان نمازوں کے ماہانہ اهداف طے کریں اور اس کے لیے بھرپور کوشش بھی فرمائیں۔

﴿22﴾ **کارکردگی فارم و مَذْنَى مشوروں کی تاریخیں و مَذْنَى پھول:**

#	تاریخ	مَذْنَى مشورہ لینے والے	سطح	شرکاء	مَذْنَى پھول
1	5	ذمہ دار نگرانِ زون / زون	زون	شہر ذمہ داران، شہر سطح کی مجلس و ذیلی مجلس کارکردگی، ذمہ داران کے تقرر، ترقی و ترقی کا جائزہ، اچھی کارکردگی پر حوصلہ افزائی اور کمزور کارکردگی پر تفہیم و تربیت اور پھر اگلے ماہ کے اهداف وغیرہ	نگرانِ زون / زون

عطاری زون (باب المدینہ کراچی) اور تجویری زون (مرکز الاولیاء لاہور) میں کامیش سطح پر کامیش ذمہ دار بھی زون سطح کے مدنی مشورے میں شرکت کرے گا

2	6	ذمہ دار نگرانِ مجلس / ریجن	ریجن	زون ذمہ داران	//
3	7	ذمہ دار نگرانِ مجلس	ملک	رکن شوریٰ / نگرانِ مجلس	//

**وضاحت:** رکن شوریٰ / نگرانِ مجلس، پاکستان سطح کی مجلس (ریجن ذمہ داران) کا ہر ماہ مدنی مشورہ فرمائیں، ایک ماہ بالمشافہ اور

بھی شامل ہے۔

- (31) یاد رہے کہ متعلقہ رکن شورای ضرورت آن مدنی پھولوں میں تبدیلی کر سکتے ہیں۔
- (32) ذمہ دار ان اپنی دنیا اور آخرت کی بہتری کے لئے مندرجہ ذیل امور کو اپنانے کی کوشش فرمائیں:
- (ہفتہ وار جماعتی طور پر دیکھنے جانے والے ”مدنی مذاکرے“، میں اول تا آخر شرکت کو لیقینی بنائیے، اس کی برکت سے علم دین کا لازوال خزانہ ہاتھ آئے گا نیز ”مدنی انعام نمبر: 47“ پر عمل کرتے ہوئے مدنی چینل کے سلسلے، اسلامی بیانات کے ساتھ ساتھ فیضان مدنی مذاکرہ اور فیضان فرض علوم میموری کارڈ (Memory Card) سننے کا بھی سلسلہ رکھیے، اس سے بھی کثیر فرض علوم حاصل ہوں گے۔ ان شاء اللہ عزوجل۔
- عملی طور پر مدنی کاموں میں شریک ہوں، روزانہ کم از کم (2) گھنٹے مدنی کاموں میں صرف کیجئے مثلاً مدنی قافلے میں سفر اور مدنی انعامات پر عمل کے لئے روزانہ فکر مدینہ کا ذہن دینے کے لیے کم از کم دو اسلامی بھائیوں پر انفرادی کوشش، مدنی فرض علوم سیکھنے کے لئے روزانہ 2 گھنٹے مطالعہ بھی فرمائیں۔
- (25) ذمہ دار ان عملی طور پر مدنی کاموں میں شریک ہوں۔ مثلاً مدنی دورہ، مدرسۃ المدینہ بالغان، بعد فجر مدنی حلقة، صدائے مدینہ، چوک درس، پابندی وقت کے ساتھ اول تا آخر ہفتہ وار اور دیگر اجتماعات میں شرکت وغیرہ۔
- اپنے مدنی مقصد کو پیش نظر رکھتے ہوئے روزانہ فکر مدینہ کرتے ہوئے ہر ماہ مدنی انعامات کا رسالہ اپنے ذمہ دار کو جمع کروائیں اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے عمر بھر میں یکمشت 12 ماہ، ہر 12 ماہ میں 1 ماہ اور ہر ماہ کم از کم 3 دن جدول کے مطابق مدنی قافلے میں سفر کی ترکیب بناتے رہیں۔
- بلا ناخ فکر مدینہ کرتے ہوئے عطار کا دوست، پیارا، منظور نظر اور محظوظ بننے کی سعی جاری رکھیے، استقامت پانے کے لئے کم از کم 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کو اپنا معمول بنا لیجئے نیز ضروری گفتگوں لفظوں میں کچھ اشارے میں اور کچھ لکھ کر کرنے کی کوشش کے ساتھ ساتھ نگاہیں جھکا کر کھنے کی ترکیب بنائیے۔
- مرکزی مجلس شورای، زون اور اپنے شعبے کے مدنی مشوروں کے ملنے والے مدنی پھولوں کا خود بھی مطالعہ کیجئے اور متعلقہ تمام ذمہ دار ان تک بروقت پہنچانے کی ترکیب بنائیے۔
- اپنے مجلس، مدنی انعام نمبر 47 پر عمل کرتے ہوئے روزانہ کم از کم 1 گھنٹہ 12 منٹ مدنی چینل دیکھنے کی ترکیب بنائیں تیز ہفتہ وار Live دینی مذاکرہ دیکھنے کے ساتھ ساتھ دیگر بیکارڈ مدنی مذاکروں اور مدنی چینل کے سلسلوں کو اہتمام کے ساتھ دیکھنے کی مدنی اتجاء ہے۔

- (22) نگران وار اکین مجلس، شخصیات کو ہر ماہ بالمشافعہ دعوتِ اسلامی کے اشاعقی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتب و رسائل اور میموری کارڈ مہیا کریں۔ (اس شعبے کی شخصیات کو بذریعہ ذاک بھی ہر ماہ رسائل بھیجنے کی ترکیب کریں تو مدینہ مدینہ)
- (23) نگران وار اکین (ذیلی تاریخ) ہر ماہ مدنی قافلے میں چند کھلاڑیوں کو ساتھ لے کر سفر کریں نیز ہو سکے تو اہم تینی ذمہ دار ان کے ساتھ بھی سفر کروائیں۔
- (24) ذمہ دار ان روزانہ (کم از کم 2 گھنٹے) وقت مقرر کر کے اپنے نگران کے دیئے ہوئے جدول کے مطابق عمل کریں نیز سفر اور مدنی انعامات پر عمل کے لئے روزانہ فکر مدینہ کا ذہن دینے کے لیے کم از کم دو اسلامی بھائیوں پر انفرادی کوشش، مدنی فرض علوم سیکھنے کے لئے روزانہ 2 گھنٹے مطالعہ بھی فرمائیں۔
- (25) ذمہ دار ان عملی طور پر مدنی کاموں میں شریک ہوں۔ مثلاً مدنی دورہ، مدرسۃ المدینہ بالغان، بعد فجر مدنی حلقة، صدائے مدینہ، چوک درس، اول تا آخر ہفتہ وار جماعت، جدول کے مطابق ہر ماہ مدنی قافلے میں سفر وغیرہ اور کھلاڑیوں کو ان مدنی کاموں میں باقاعدہ شرکت کروائیں۔
- (26) متعلقہ نگران کی مشاہدہ رات سے شعبہ ذمہ دار ان منگل کے روز ضرورت آیک دو گھنٹے کے لیے تحریری کام کی ترکیب بنائیں جس میں اپنے پچھلے ہفتے کی کارکردگی کا جائزہ اور آئندہ ہفتے کے جدول کی تیاری وغیرہ شامل ہو۔
- (27) جو مساجد مجلس رابطہ برائے اسپورٹس سے متعلقہ اداروں میں ہوں، وہاں ذیلی مجلس مدنی کاموں کی ترکیب بنائے۔ (مثلاً مدنی درس (درس فیضان سنت)، مدنی دورہ، بعد فجر مدنی حلقة وغیرہ)
- (28) نگران وار اکین، حلم و بدباري، ملنساري، سادگي پسند، با اخلاق، با کردار، سلیمانی ہوئے، تعلیم یافتہ، دعوتِ اسلامی کے مدنی اصولوں کے آئینہ دار، مدنی مرکز کے مطیع و فرمان بدار اور اصطلاحات دعوتِ اسلامی وغیرہ سے واقف ہوں۔
- (28) متعلقہ نگران/نگران مجلس سے مربوط رہیں، انھیں اپنی کارکردگی سے آگاہ رکھیں اور ان سے مشورہ کرتے رہیں، جو نگران سے جتنا زیادہ مربوط رہے گا وہ اتنا ہی مضبوط ہوتا جائے گا۔ ان شاء اللہ عزوجل۔
- (30) متعلقہ رکن شورای او نگران زون کی اجازت سے وقاً فوقاً اپنی مجلس کے سنتوں بھرے اجتماع کی ترکیب کرتے رہیں۔ تا کہ پرانے اسلامی بھائیوں کی یادِ دہانی اور نئے اسلامی بھائیوں کی تربیت کا سامان ہوتا رہے۔

﴿مَدْنَى كام استقامت کے ساتھ کرنے کے لئے بالخصوص مَدْنَى انعام نمبر 24 اور 26 کے عامل بن جائیں﴾ مَدْنَى انعام نمبر 24: کیا آج آپ نے مرکزی مجلسِ شورای، زون، مشاورتیں و دیگر تمام مجالس جس کے بھی آپ ماتحت ہیں، ان کی (شریعت کے دائے میں رہ کر) اطاعت فرمائی۔ ﴿مَدْنَى انعام نمبر 26: کسی ذمہ دار (یا عام اسلامی بھائی) سے برائی صادر ہو جائے اور اصلاح کی ضرورت محسوس ہو تو تحریری طور پر یا براہ راست مل کر (دونوں صورتوں میں نرمی کے ساتھ) سمجھانے کی کوشش فرمائی یا معاذ اللہ عزوجل جل بلا اجازت شرعی کی اور پر اظہار کر کے غیبت کا گناہ کبیرہ کر بیٹھے؟

**مَدِینَة: بیرونِ ملک کے ذمہ دار ان متعلقہ رکن شوریٰ کے مشورے و اجازت سے ان مَدْنَى پھولوں میں ترمیم و اضافہ کر سکتے ہیں۔**

### مرکزی مجلسِ شوریٰ 『دعوت اسلامی』

**مَدْنَى مقصد:** مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ ان شاء اللہ عزوجل

تاریخِ اجراء (پڑیت مَدْنَى پھول): ۲۲ رمضان المبارک ۱۴۴۰ھ / 28 مئی 2019ء